



USB-C CHARGER

- USB-C CHARGER
- CARICABATTERIE USB-C
- CHARGEUR DE BATTERIE USB-C
- BATTERIELADEGERÄT USB-C
- CARGADOR USB C
- USB-C ŞARJ CİHAZI
- BATTERIJLADER USB-C
- LATURI USB-C
- USB-C شارژ بطاريات

ISTRACHSUSBCLSW-VIC

ES - INSTRUCCIONES PARA EL USO

El cargador de baterías ACH incorpora la tecnología switching y se adapta automáticamente a la tensión de red del país donde se utiliza.

El puerto USB-C permite recargar cualquier aparato que utilice un cable USB-C para su alimentación. Advertencias de Seguridad: para desconectar el dispositivo de la alimentación de red, desenchúfe el cargador de la toma de red.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INPUT: AC 100-240V, 50/60HZ, 0.5A
OUTPUT (USB-C): DC 5.0V/2.0A/10.0W, 9.0V/1.67A/15.03W
Eficiencia media en activo (%) : 84%
Eficiencia a baja carga (%) (10%) : 76,80%
Consumo de potencia con funcionamiento en vacío (W): 0,07W

TR - KULLANIM KILAVUZU

Switch teknolojisi sahip olan ACH serisi pil şarjörü, otomatik olarak kullandığınız Ükedeke enerji besleme tipine uyulanır. USB-C soketi, bir USB-C kablosuna elektrik beslemesi olarak kullanılaben herhangı bir cihaz yeniden şarj etmeyi sağlar.

Güvenlik Uyarısı: Ağıtçı beşbe beslemesinden ayrırmak için şarjörü soketten çıkarınız.

TEKNİK ÖZELLİKLER

INPUT: AC 100-240V, 50/60HZ, 0.5A
OUTPUT (USB-C): DC 5.0V/2.0A/10.0W, 9.0V/1.67A/15.03W
Ortalama aktif performans (%) : 84%
Düşük şarjda performans (%) (%10): 76,80%
Yüksek güç tüketimi (W): 0,07W

NL - GEBRUIKERSHANDLEIDING

De batterijlader serie ACH is voorzien van de switching technologie, en past zich automatisch aan het type van voeding aan dat wordt geleverd door het land van gebruik.

Dankzij de USB-C-aansluiting kan elk apparaat opgeladen worden dat een USB-C-stroomkabel gebruikt. Waarschuwingen voor de Veiligheid: om het apparaat los te koppelen van de netvoeding moet de lader uit de aansluiting verwijderd worden.

TECHNISCHE Kenmerken

INPUT: AC 100-240V, 50/60HZ, 0.5A
OUTPUT (USB-C): DC 5.0V/2.0A/10.0W, 9.0V/1.67A/15.03W
Gemiddelde actieve efficiëntie (%) : 84%
Efficiëntie bij lage belasting (%) : 76,80%
Energieverbruik in niet-belaste toestand (W) : 0,07W

FI - KÄYTTÖOPAS

ACH-sarjan akkulaatur on varustettu switching-tekniologialla ja se sopeutuu automaattisesti käyttömaassa käytettyyn virransyöttöön.

USB-C-liittimen kautta voidaan ladata mikä tahansa laite, joka käyttää virransyötössä USB-C-kaapelia.

Turvaahtoe: kytkte laite pois verkkovirrasta irrottamalla laturi pistorasialta.

TEKNISII OMINAISUUDET

INPUT: AC 100-240V, 50/60HZ, 0.5A
OUTPUT (USB-C): DC 5.0V/2.0A/10.0W, 9.0V/1.67A/15.03W
Keskimääräinen aktiivinen tuotto (%) : 84%
Tuotto alhaisella latauskavalla (%) (10%): 76,80%
Tehonkulutus tyhjänä (W) : 0,07W

العربية - دليل التعليمات

شحن البطاريات من سلسلة ACH مزود بتكنولوجيا تحويل وتبلام تلقائياً مع أنواع التغذية للكهربائية المتوفرة في الدولة التي يستعمل فيها.

أخذ الويس أي بيسي (USB-C) يسمح بشحن أي جهاز يستعمل كابل يو بي سي أي

يمكن استعمال الكابل المزداد بالطاقة.

تحذير السلامة: لفصل الجهاز عن تيار الشبكة الكهربائية يجب إخراج الشاحن من مأخذ التيار.

المواصفات الفنية

مُدخل التيار: تيار متردد 240-10 فولت، 60/50 هرتز، 0,5 أمبير
مُدخل التيار (يو بي سي (USB-C): تيار مستمر 5,0 فولت/0,07 أمبير/10,0 واط
مُدخل التيار (يو بي سي (USB-C): تيار مستمر 5,0 فولت/0,07 أمبير/10,0 واط
معدل الطاقة الخارجة المشططة (%) : 84%
معدل الطاقة الخارجة عند انخفاض الحمل (%) (%10) : 76,80%
استهلاك الطاقة أثناء عدم الاستعمال: (واط): 0,07



EN - This product carries the CE mark in compliance with the provisions of EU directives on electromagnetic compatibility (2014/30/UE), low voltage (2014/35/UE), and RoHS (2015/863/UE) that updated 2011/65/UE, and EU Regulation No. 1782/2019 that implements directive 2009/125/EC.

IT - Questo prodotto è contrassegnato dal marchio CE in conformità con le disposizioni della direttiva compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE), bassa tensione (2014/35/UE), RoHS (2015/863/UE) che ha aggiornato la 2011/65/UE, regolamento UE numero 1782/2019 che implementa la direttiva 2009/125/EC.

FR - Ce produit est marqué du label CE conformément aux dispositions de la directive de compatibilité électromagnétique (2014/30/UE), basse tension (2014/35/UE), RoHS (2015/863/UE) d'actualisation de la directive 2011/65/UE, règlement UE numéro 1782/2019 d'application de la directive 2009/125/CE.

DE - Dieses Produkt ist entsprechend den Vorschriften der Richtlinien über elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/UE), der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/UE), der Richtlinie RoHS (2015/863/UE), die durch die Richtlinie 2011/65/UE aktualisiert wurde), der Verordnung (EU) Nr. 1782/2019 zur Umsetzung der Richtlinie 2009/125/EG mit der CE-Kennzeichnung versehen.

ES - Este producto lleva el marcado CE de conformidad con las disposiciones de las directivas de compatibilidad electromagnética (2014/30/UE), de baja tensión (2014/35/UE) y RoHS (2015/863/UE), por la que se modifica la directiva 2011/65/UE, así como del reglamento UE número 1782/2019, que implementa la directiva 2009/125/CE.

TR - Bu ürün, Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (2014/30/UE), Alçak Gerilim Direktifi (2014/35/UE), RoHS Direktifi (2015/863/UE) direktifini güncellemlenmiş 2011/65/UE ve 2009/125/EC direktifini uygulayan 1782/2019 sayılı UE Tüzüğü hükümlerine uygun olarak CE işareti ile işaretlenmiştir.

NL - Dit product is gemerkt met de CE-markering in overeenstemming met de bepalingen van de Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit(2014/30/UE), Laagspanning (2014/35/UE), RoHS (2015/863/UE) ter updating van de Richtlijn 2011/65/UE, verordening (EG) Nr. 1782/2019 voor de tenuitvoerlegging van de Richtlijn 2009/125/EG.

FI - Tämä tuoteessa on CE-merkintä sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan direktiivin (2014/30/UE), pienjännitedirektiivin (2014/35/UE), RoHS-direktiivin (2015/863/UE) mukaan on päivitettyä direktiivin 2011/65/UE) asetuksen (EU) No 1782/2019 mukaisesti, joka panee täytäntöön direktiivin 2009/125/EC.

العربية - هذا المنتج يحمل علامة CE وفقًا لشروط توجيه التوافق الكهرومغناطيسي (2014/30/UE)، وتوجيه الجهد المنخفض (2014/35/UE)، وRoHS (2015/863/UE) الذي قدم تحديث توجيه رقم (2011/65/UE)، وتطبيق الاتحاد الأوروبي رقم (2009/125/EC) الذي يقدم تطبيقه 1782/2019.



EN - INFORMATION ON THE STATUTORY WARRANTY
Our products are covered by a statutory warranty against conformity defects in accordance with applicable national consumer protection laws.

FR - INFORMATIONS SUR LA GARANTIE LEGALE
Nos produits sont couverts par la garantie légale de conformité selon les lois nationales applicables en matière de protection du consommateur.

IT - INFORMAZIONI SULLA GARANZIA LEGALE
I nostri prodotti sono coperti da garanzia legale per i difetti di conformità secondo quanto previsto dalle leggi nazionali applicabili in tutela del consumatore.

FR - INFORMATIONS SUR LA GARANTIE LEGALE
Nos produits sont couverts par la garantie légale de conformité selon les lois nationales applicables en matière de protection du consommateur.

DE - INFORMATIONEN ZUR GESETZLICH VORGESCHRIBENEN GARANTIE
Unsere Produkte sind gemäß den Vorschriften der örtlichen Verbraucherschutzgesetzte durch eine gesetzliche Garantie für Konformitätsmängel gedeckt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.cellularline.com/en/garanzia-legale

ES - INFORMACION SOBRE LA GARANTIA LEGAL
Nuestros productos están cubiertos por una garantía legal por defectos de conformidad, conforme a la dispuesto en las leyes nacionales aplicables para la protección del consumidor. Para más información, consulte la página: www.cellularline.com/en/garanzia-legale

TR - YASAL GARANTI HAKKINDA BİLGİLER
Ürünlerimiz, tüketici koruması ile ilgili yürürlükteki milli kanunlar bağlamında uygulanabilirleri göre vusunlanmıştır. Kızı yasal garantiye sahiptir.

NL - INFORMATIE OVER DE WETTELIJKE GARANTIE
Onze producten vallen onder een wettelijke garantie voor conformiteitsdefecten volgens de toepassbare nationale wetgeving voor consumentenbescherming.

FI - LAKSIAKSEIEN TAKUIKSEEN LITTYVÄÄ TIETOA
Tuotteillamme on lakisääntöjen mukaisa takuu virheistä, sovellettävien valtakansallisten kulluttajansuojalain mukaisesti.

العربية - معلومات حول الضمان القانوني
منتجاتنا مغطاة بضمان قانوني ضد عيوب المطابقة وفقاً لما تضمنه فيه القوانين المعمول بها لحماية المستهلك.



EN - INSTRUCTIONS FOR THE DISPOSAL OF DEVICES FOR DOMESTIC USE (Applicable in countries in the European Union and those with separate waste collection systems)
This mark on the product or documentation indicates that this product must not be disposed of with other household waste at the end of its life. To avoid any damage to health or the environment due to improper disposal of waste, the user must separate this product from other types of waste and recycle it in a responsible manner to avoid the use of the material resources.

IT - ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURA PER UTENTI DOMESTICI (Applicabile in paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistemi di raccolta differenziata)
Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.

FR - ISTRUZIONI CONCERNANT L'ÉLIMINATION DES APPAREILS POUR LES UTILISATEURS À DOMICILE (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans ceux appliquant le système de collecte sélective)
Le symbole figurant sur le produit ou sur la documentation correspondante, indique que le produit ne doit pas être éliminé comme déchet ordinaire au terme de sa durée de vie.

FR - INFORMATIONS CONCERNANT L'ÉLIMINATION DES APPAREILS POUR LES UTILISATEURS À DOMICILE (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans ceux appliquant le système de collecte sélective)
Le symbole figurant sur le produit ou sur la documentation correspondante, indique que le produit ne doit pas être éliminé comme déchet ordinaire au terme de sa durée de vie.

DE - ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG VON GERÄTEN FÜR PRIVATHAUSHALTE (Betrifft die Länder der Europäischen Union und jene mit Wiederverwertungssystem)
Dieses auf dem Produkt und den Unterlagen aufgeführte Zeichen weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf.

IT - INFORMAZIONI SULLA GARANZIA LEGALE
I nostri prodotti sono coperti da garanzia legale per i difetti di conformità secondo quanto previsto dalle leggi nazionali applicabili in tutela del consumatore.

FR - INFORMATIONS SUR LA GARANTIE LEGALE
Nos produits sont couverts par la garantie légale de conformité selon les lois nationales applicables en matière de protection du consommateur.

DE - INFORMATIONEN ZUR GESETZLICH VORGESCHRIBENEN GARANTIE
Unsere Produkte sind gemäß den Vorschriften der örtlichen Verbraucherschutzgesetzte durch eine gesetzliche Garantie für Konformitätsmängel gedeckt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.cellularline.com/en/garanzia-legale

ES - INFORMACION SOBRE LA GARANTIA LEGAL
Nuestros productos están cubiertos por una garantía legal por defectos de conformidad, conforme a la dispuesto en las leyes nacionales aplicables para la protección del consumidor. Para más información, consulte la página: www.cellularline.com/en/garanzia-legale

TR - YASAL GARANTI HAKKINDA BİLGİLER
Ürünlerimiz, tüketici koruması ile ilgili yürürlükteki milli kanunlar bağlamında uygulanabilirleri göre vusunlanmıştır. Kızı yasal garantiye sahiptir.

NL - INFORMATIE OVER DE WETTELIJKE GARANTIE
Onze producten vallen onder een wettelijke garantie voor conformiteitsdefecten volgens de toepassbare nationale wetgeving voor consumentenbescherming.

FI - LAKSIAKSEIEN TAKUIKSEEN LITTYVÄÄ TIETOA
Tuotteillamme on lakisääntöjen mukaisa takuu virheistä, sovellettävien valtakansallisten kulluttajansuojalain mukaisesti.

العربية - معلومات حول الضمان القانوني
منتجاتنا مغطاة بضمان قانوني ضد عيوب المطابقة وفقاً لما تضمنه فيه القوانين المعمول بها لحماية المستهلك.

ES - INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DE APARATOS PARA USO DOMÉSTICO

(Aplicable en los países de la Unión Europea y en los que tienen sistemas de recogida diferenciada)
La marca que figura en el producto o en la documentación indica que el producto no debe ser eliminado con otros residuos domésticos cuando finalice su ciclo de vida. Para evitar eventuales daños al medio ambiente o a la salud causados por la eliminación inoportuna de los residuos se invita al usuario a separar este producto de otros tipos de residuos y a reciclarlo de forma responsable para favorecer la reutilización sostenible de los recursos materiales. Se invita a los usuarios domésticos a contactar el distribuidor al que se ha comprado el producto o la oficina local para obtener la información relativa a la recogida diferenciada o al reciclado para este tipo de producto. Se invita a los usuarios empresariales a contactar con su proveedor y verificar los términos y las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe ser eliminado con otros residuos comerciales.

Para mayor información visite el sitio web <http://www.cellularline.com>

TR - EVDE KULLANIMA YONELIK CIHAZLARIN BERTARAFI IÇIN TALIMATLAR (Arupara birlii) kullerine ile ayrirtilmis toplama sistemlerine sahip ukelerde gecerlidir. Urunun veya belgelerinin uzerinde yer alan bu isaret, kullanim ortami tamamladigiinda soz konusu urunun diger ev atiklariyla birlikte bertaraf edilmesine gerekligini gostermektedir. Atiklari uygunusuk sekilde bertaraf edilmesinin sonucunda çevre ve saglik uzerindeki meydana gelebilecek zararlar onlenmesi amacıyla kullancilarin bu urunu diger atik tiplerinden ayrir olarak saklamasi ve matame kaynaklariinin sirdirulubilir sekilde yeniden kullanilmasi ozdemirdek amaciyla sorumlu bir sekilde geri donutirilmesi onerilmektedir. Ev kullancilarin bu tip urunlerin ayrir toplama ve geri donutirulmesiyeligli tum bilgiler konusunda urunu satan alimci satilciya veya bulunduklari yerdeki daryeye bagli bir kuruma davet edilir. Sirket kullancilarin kendi tedarikleriyekili bagli kurmayi veya alimci satilciyemasi ve kullanim kontrol etmeye davet edilir. Daha fazla bilgi almak icin <http://www.cellularline.com> web sitesini ziyaret edin.

NL - INSTRUCTIES VOOR DE VERMIETTING VAN APPARAATUUR VOOR HUISHOUDELIJKE GEBRUIKERS
(Van toepassing in de landen van de Europese Unie en in landen met systemen voor gescheiden inzameling)

De op het product of op zijn verpakking afgebeelde afbeelding geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval vernietigd mag worden. Om mogelijke schade aan het milieu of de volkgezondheid als gevolg van een ongeschikte vernietiging van afval te voorkomen, wordt de gebruiker verzocht dit product van andere soorten afval te scheiden en het op een verantwoorde wijze te recyclen om een duurzaam gebruik van de materialen te bevorderen.

De huishoudelijke gebruikers worden verzocht contact op te nemen met de winkel waar ze het product gekocht hebben of met de plaatselijke instantie voor alle informatie inzake de gescheiden inzameling en de recycling voor dit type product. Zakelijke gebruikers worden verzocht contact op te nemen met hun leverancier en de regels en voorwaarden van het koopcontract te controleren. Dit product mag niet samen met ander bedrijfsafval vernietigd worden.

FR - OUEET KOTIRMALUUKAYTÖSSÄ OLVEN LAITTEIDEN HÄVITÄMISESTÄ (Sovellettävissä Euroopan unionin jäsenmaissa ja maissa, jossa on erilliset jätteen keräysjärjestelmät)

Tuotteessa tai tuotteen asiakirjoissa oleva merkki tarkoittaa, että tuotetta ei saa käyttöönsä päätyttyä yhdessä muuten kotitalousjätteen kanssa. Jotta jätteen viirehillestää hävityksestä joutuvat ympäristö- tai terveyshaitat vältettävissä, käyttäjän on erotettava tämä tuote muista jätteyytyistä ja kierrätettävä se vastuullisesti luonnonvarojen kestävä uudeellenkäyttöä varten.

Henkilöasiakkaita kehoitetaan ottamaan yhteyttä tuotteen myyneeseen jällemyyjään tai paikalliseen asiaankuuluvaan tahoon saadakseen kaikki tarvittavat tiedot jätteen tyypin tuotteen erillisestä keräyksestä ja kierrätyksestä. Yrityssasiakkaita kehoitetaan ottamaan yhteyttä omaan tavantontamintaajansa ja tarkistamaan myyntisopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei saa hävittää muuten kaupallisten jätteen kanssa.

Jos haluat lisätietoja, käy verkkosivulla <http://www.cellularline.com>

العربية - تعليمات التخلص من الأجهزة للمستهخدمين المنفصلين (سارية في دول الاتحاد الأوروبي والدول التي بها أنظمة جمع نفايات منفصلة)
تتبر العلامة الموجودة على المنتج أو وثائقه التي بها يجب عدم التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في المهلة دورة حياته. لتجنب أي ضرر قد يلحق بالبيئة أو الصحة بسبب التخلص غير السليم من النفايات ينبغي طلب من المستهلكين فصل هذا المنتج عن الأنواع الأخرى من النفايات، وإعادة تدويره بشكل مسؤول لتعزيز إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية.

يتم التخلص من المستهلكين المنفصلين الاتصال بنات الترتية التي تم شراء المنتج منه أو بالجهة الرسمية المسؤولة للمستهدم على جميع المعلومات المتكتمة بالجمع المنفصل وإعادة التدوير لهذا النوع من المنتجات. ينبغي المستهلكون من التحد بالاصول الملزمة الخاص بهم ومراعاة شروط وأحكام اتفاقية الشراء. يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات التجارية الأخرى.

لمزيد من المعلومات من يرجى الموقع <http://www.cellularline.com>



EN - Use the battery charger only as instructed in the packaging
Do not connect and damage or unsafe power outlets
Protect the product from dirt, humidity, overheating and use only in dry environments, avoiding all contact with liquids
Do not expose to the sun, high temperatures or flames
If the cable is dropped, ensure it is not damaged before using it again
Keep far from the reach of children

IT - Utilizzare il caricabatterie solo come indicato nella confezione
Non connettere a prese di corrente danneggiate o poco sicure
Proteggere il prodotto da sporcizia, umidità, surriscaldamento e utilizzarlo solo in ambienti asciutti evitando il contatto con liquidi
Non esporre al sole, ad alte temperature o al fuoco
In caso di cadute, assicurarsi che il prodotto sia integro prima di riutilizzarlo
Tenerlo fuori dalla portata dei bambini

FR - Utiliser le chargeur en suivant les instructions de l'emballage.
Ne jamais brancher à des prises de courant endommagées ou peu fiables.
Protéger le produit de la saleté, de l'humidité, de la surchauffe et l'utiliser uniquement dans des endroits secs pour éviter le contact avec des liquides.
Ne pas exposer au soleil, aux hautes températures ou au feu.
En cas de chutes, contrôler l'intégrité du produit avant de le réutiliser.
Conservér hors de portée des enfants.

DE - Verwenden Sie das Ladegerät nur entsprechend der Beschreibung auf der Verpackung
Nicht an beschädigte oder unsichere Steckdosen anschließen
Das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung schützen, nur in trockenen Umgebungen verwenden und den Kontakt mit Flüssigkeiten vermeiden
Nicht der Sonne, hohen Temperaturen oder Feuer aussetzen
Nicht in feuchten oder feuchtigkeitsreicher ist vor einer erneuten Verwendung sicherzustellen, ob es unversehrt ist
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

ES - Use exclusivamente el cargador de baterías como se indica en el envase
No lo conecte a tomacorrientes dañados o poco seguros
Proteja el producto de la suciedad, la humedad y el sobrecalentamiento y úselo solo en ambientes secos evitando el contacto con los líquidos
No lo exponga al sol, a las altas temperaturas ni al fuego
En caso de caída, asegúrese de que el producto está integro antes de volver a utilizarlo
Manténgalo fuera del alcance de los niños

TR - Şarj cihazını yalnızca ambalajındaki gösterildiği gibi kullanın
Hasarlı veya güvenilmez duşuk bir elektrık prıne bağlamayın
Ürünü kir, nem, aşırı ısınmaya karşı koruyun ve sıvılarla temasını önleyerek yalnızca kuru ortamlarda kullanın
Güneş ve yüksek sıcaklıklara ya da ateşe maruz bırakmayın
Dişme potansiyelinde bulunanlarda nemli ortamlarda kullanılmamalıdır
Cocukların erişimeyebilecekleri yerlerde saklayın

NL - Gebruik de batterijlader alleen zoals aangegeven in de verpakking
Sluit niet aan op beschadigde of onveilige stopcontacten
Bescherm het product tegen vuil, vocht, oververhitting, gebruik het alleen in droge omgevingen en vermijd elk contact met vloeistoffen
Mocht het product vullen, controleer dan of het intact is alvorens het weer te gebruiken
Houd buiten bereik van kinderen

FI - Käytä akkulaaturia vain pakkaussessa kerrotulla tavalla.
Äläitä sitä vahingollisiin tai ei-turvallisiin pistorasuihin.
Suojaa tuote lialta, kosteudelta ja ylikuumenemiselta ja käytä sitä vain kuivissa ympäristöissä: vältä kosketukset nesteisiin.
Älä altista aurinkolle, korkealle lämpötilalle tai tulelle.
Jos tuote puttaa, varmista, että se on ehjä ennen kuin käytät sitä uudelleen.
Pidä lasten ulottamattomissa.

العربية - استخدم الشاحن فقط كما هو موضح على العبوة.
يتم التوصيل بمناقطة طاقة أو غير آمنة.
احرص على عدم التماس المنتج من الإزاح والطوبة والرطوبة الزائدة، ويستخدم فقط في البيئات الجافة مع تجنب التماس مع السوائل.
يتم التحريض لامعة الشمس أو درجات الحرارة المرتفعة أو النار.
في حالة سقوط المنتج من أن المنتج سليم قبل استخدامه مرة أخرى.
يحمي بعيداً عن متناول الأطفال.



